

## شریعیہ بورڈ فتویٰ

### ریٹیل سیونگ پروڈکٹس

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين، و على آله واصحابهم اجمعين، وبعد!

دبی اسلامک بینک ڈیپازٹرز سے سیونگ اکاؤنٹس اور ٹرم ڈیپازٹس میں مضاربہ کی بنیاد پر فنڈ قبول کرتا ہے، اس مضاربہ کے تحت ڈیپازٹرز (رب المال) سرمایہ فراہم کرتے ہیں اور بینک (مضارب) خدمات فراہم کرتا ہے۔

- بینک ڈیپازٹرز کی طرف سے وصول شدہ فنڈز کو مختلف ڈیپازٹ پول میں مختص کرتا ہے۔ یہ فنڈز مختلف اسلامی طریقہ تمویل (فائنانسنگ) میں انویسٹ کیے جاتے ہیں جن میں مراحمہ، شرکت الملک مع اجارہ، رنگ مشارکہ، شرکت متناقصہ وغیرہ شامل ہیں۔
  - بینک ڈیپازٹ پول کے منافع کا ماہانہ بنیاد پر حساب کرتا ہے، براہ راست اخراجات منہا کرنے کے بعد ڈیپازٹ پول کی مجموعی آمدنی مضارب اور رب المال کے درمیان پہلے سے طے شدہ پرافٹ شیئرنگ ریشو کے مطابق تقسیم کی جاتی ہے۔
  - ڈیپازٹرز کے درمیان منافع ڈیپازٹ کی قسم / کیٹیگریز کی بنیاد پر پہلے سے بیان کردہ ویٹیز (اوزان) کے مطابق تقسیم کیا جاتا ہے جن کا اعلان ہرمینہ کی ابتدا میں کیا جاتا ہے۔ ویٹیز برانچوں کے نوٹس بورڈ اور DIB کی ویب سائٹ (www.Dibpak.com) میں آویزاں کیے جاتے ہیں۔
  - مضاربہ کے اصولوں کے مطابق ڈیپازٹرز کو اپنے سرمایہ کے تناسب کے حساب سے نقصان (اگر ہوا) برداشت کرنا پڑے گا، البتہ اگر بینک کی کوتاہی ثابت ہوگی تو مضاربہ نقصان برداشت کرے گا۔
  - ایسے ڈیپازٹ (پاکستانی روپے میں) جن کی مدت مہینہ کے درمیان میں پوری ہو جائے یا رول اوور کر دیے جائیں تو گزشتہ اعلان شدہ ریٹ کے مطابق منافع ڈیپازٹرز کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔
  - قبل از وقت کیش نکالنے کی صورت میں، بینک مضاربہ پول کے کل اثاثہ میں سے کسٹمر کا شیئر (حصہ) رعایتی قیمت پر چھڑا سکتا ہے۔
- اوپر بیان کیے گئے ساخت کے مطابق ہم نے درج ذیل پروڈکٹس کی ساخت کا ان کی ڈاکیومنٹیشن سمیت جائزہ لیا ہے اور ہم تصدیق کرتے ہیں کہ یہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے۔

سیونگ ریگولر اکاؤنٹ (پاکستانی روپے اور فارن کرنسی میں)	>	امی سیونگ اکاؤنٹ
سیونگ پلس اکاؤنٹ	>	برنس سیونگ اکاؤنٹ
اسپیٹل سیونگ اکاؤنٹ	>	ریگولر ٹرم ڈیپازٹ (پاکستانی روپوں اور فارن کرنسی میں)
انہانس سیونگ اکاؤنٹ	>	پریم ٹرم ڈیپازٹ



میاں محمد نذیر  
شریعیہ بورڈ ممبر



ڈاکٹر حسین حامد حسان  
چیرمین شریعیہ بورڈ



مفتی حسان کلیم  
ریزیڈنٹ شریعیہ بورڈ ممبر